



III Level 4

Urdu

Samrina Sana

Catherine Groenewald

Violet Otiemo

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Attribution 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons



stories in Canada's many languages.

Storybooks Canada is an effort to provide children's stories in Canada's many languages ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by

This story originates from the African Storybook

Translated by: Samrina Sana

Illustrated by: Catherine Groenewald

Written by: Violet Otiemo


عنوان سیل لگی

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

# Storybooks Canada




عنوان سیل لگی



اوڈونگو اور ایپیو شہر میں اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں چھٹیوں کا  
انتظار تھا۔ نا صرف اس لیے کہ سکول بند ہو بلکہ وہ اپنی دادی کے گھر جا  
سکیں۔ وہ ایک بڑی ندی کے کنارے مچھلیاں پکڑی جانے والی گاؤں میں  
رہتی تھیں۔

- حَسْبَكِيَّةَ كَوْنَتْ  
 أَنْتَ مَنْ تَعْلَمُونَ، - حَسْبَكِيَّةَ كَوْنَتْ  
 كَوْنَتْ كَوْنَتْ كَوْنَتْ كَوْنَتْ  
 كَوْنَتْ كَوْنَتْ كَوْنَتْ كَوْنَتْ كَوْنَتْ







اگلی صبح جلد ہی وہ اپنے ابو کی گاڑی میں گاوں کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ پہاڑوں، جنگلی جانوروں اور چائے کے پودوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے گاڑیاں گنیں اور گانے گائے۔




اوڈونگو اور ایپیو سکول واپس گئے، انہوں اپنے دوستوں کو گاوں کی زندگی کے بارے میں بتایا۔ کچھ بچوں نے محسوس کیا کہ شہر کی زندگی بہتر ہے لیکن ان میں سے تقریباً سب نے اس بات کو مانا کہ اوڈونگو اور ایپیو کی دادی بہت شاندار ہیں!

-اَنْتَ مَنْ اَنْتَ فَلَا يُمْتَدِّدُ اَنْتَ عَبْدٌ، مَنْ هُنْ اَنْهُنْ مَوْلَى اَنْتَ

-اَنْتَ مَنْ اَنْتَ فَلَا يُمْتَدِّدُ اَنْتَ عَبْدٌ، مَنْ هُنْ اَنْهُنْ مَوْلَى اَنْتَ






والد نے اوڈونگو اور اپیپیو کو اٹھایا جب وہ گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں نیار کنیادا، ان کی دادی درخت کے نیچے چٹائی پر آرام کرتی ہوئی ملیں۔ نیر کنیادا کا مطلب لوزبان میں کنیادا کے لوگوں کی بیٹی ہے۔ وہ ایک مضبوط اور خوبصورت عورت تھی۔




جب ان کے ابو انہیں لینے آئے وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ بچوں نے نیار کنیادا کی منت کی کہ وہ ان کے ساتھ شہر چلیں۔ میں شہر کے لیے بہت بوڑھی ہوں اُس نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارا دوبارہ گاؤں آنے کے لیے انتظار کروں گی۔

-نُر؟ مهشاد بھی اتنے ہڈ، ٹکنے



۲۰۱۳-۱۴۰۲








تحفہ کھو لئے کے بعد نیار کنیاڑا نے اپنے پوتے اور پوتی کو روایتی انداز میں دعا  
دی۔




دن کے ختم ہونے پر انہوں نے مل کر چائے پی۔ انہوں نے کمائے ہوئے  
پیسوں کو گنے میں اپنی دادی کی مدد کی۔

سچنگی، بتش مریم، امکان نهاده اند  
که این روزهای خوش را بخواهند






وہ درخت پر چڑھے، اور نندی میں پانی اڑایا۔





ایک صبح اُوڈونگو اپنی دادی کے ساتھ گائیں کو چرانے لے گیا۔ وہ ہمسایوں کے باغے میں بھاگ گئیں۔ کسان اُوڈونگو سے کافی غصہ تھا۔ اُس نے اُسے گائیں کے فصلیں کھانے پر بہت دھمکایا۔ اُس دن کے بعد اُس نے یقینی بنایا کہ گائیں دوبارہ کسی مصیبت میں نہ پھنسیں۔

-**ମୁଦ୍ରାକରାତିଶୀଳ ପାଇଁ କାହାରେ ମୁଦ୍ରା  
କରିବାକୁ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?**



-**କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?**  
-**କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?**





اگلے دن بچوں کے ابو بچوں کو نیارکنیادا کے پاس چھوڑ کر شہر کے لیے  
واپس آگئے۔



اوڈونگو اور ایپیو نے گھر کے کاموں میں اپنی دادی کی مدد کی۔ وہ پانی لاتے،  
اگ کے لیے لکڑی لاتے۔ انہوں نے انڈے اور چوزے لکھے کیے اور  
بانچے سے سبزہ چنا۔